

بچے کو روزہ رکھوایا جائے یا نہیں
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله
الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
کہ ہمارے ہاں انگلینڈ میں 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے کیا بچے کو روزہ رکھوایا
جائے یا نہیں؟ اور اسے کس عمر سے روزے کا حکم کیا جائے؟
سائل: کبیر فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
بچہ کی عمر دس 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو
اس سے روزہ رکھوایا جائے۔ جیسا کہ درمختار میں ہے کہ **وَيَوْمَرُ الصَّبِيِّ بِالصَّوْمِ
إِذَا أَطَاقَهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ ابْنُ عَشْرِ كَالصَّلَاةِ** "بچے کو روزے کا حکم کیا جائے گا اور
دس سال کے بچے کو نہ رکھنے پر مارا جائے گا جیسا کہ نماز کے بارے میں ہے

-
("درمختار"، کتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج 3، ص 442)
مگر بچے پر روزہ بالغ ہونے پر ہی فرض ہے وہ کسی علامت بلوغت سے بالغ
ہو جائے یا اس کی عمر پندرہ 15 سال ہو جائے دونوں صورتوں میں وہ بالغ ہے اور
اس پر روزہ فرض ہے۔

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

MAKING CHILDREN FAST DURING RAMADAN

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

Question:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: In the UK, the duration of fasts is around 20 hours. So, should children be made to fast or not? At what age, should a child be commanded to fast?

Questioner: Kabir from UK

Answer:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

When the child turns 10 years old and has the ability to fast, he must be made to fast. It is mentioned in al-Durr al-Mukhtar,

وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ ابْنُ عَشْرِ كَالصَّلَاةِ

“A child shall be commanded to fast and shall be chastised if he/she does not fast after 10 years of age, similar to the ruling regarding Salah.” (al-Durr al-Mukhtar, vol. 3, pg. 442)

However, fasting is fard (obligatory) only after puberty. When a child matures through one of the legal signs of puberty [onset of menstruation in a girl/nocturnal emission in both] or he/she turns 15 years old, then fasting is fard upon him/her.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri